

HONOR OUR PROPHET MOHAMMED (PBUH)/Imam ul Ambiyaa {by obeying him (PBUH)} IN THE LIGHT OF QURAN AND HADITH!

VERY FEW ARE GREATFUL TO ALLAH(SWT)!

SURAH SABA CHAPTER34 VERSE-13

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ ۗ اَعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا ۗ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ

YaAAmaloonahu ma yashao min mahareeba watamatheela wajifanin Transliteration
kaaljawabi waqudoorin rasiyat in iAamaloo ala dawooda shukran 13:
waqaleelun min AAibadiya alshshakooru

They worked for him as he desired, (making) high rooms, images, basins as large as reservoirs, and (cooking) cauldrons fixed (in their places). "Work you, O family of Dawud (David), with thanks!" But few of My slaves are grateful. English: 13:

جو وہ چاہتا اس کے لیے بناتے تھے قلعے اور تصویریں اور حوض جیسے لگن اور جمی رہنے والی دیگیں اے داؤد والو تم شکریہ میں نیک کام کیا کرو اور میرے بندوں میں سے شکر گزار تھوڑے ہیں :Urdu 13

WORD TO WORD TRANSLATION WITH GRAMMAR

(17:79:8)

an
that

أَنْ
SUB

SUB – subordinating conjunction

حرف مصدري

(34:13:1)

[ya malūna](#)

They worked

يَعْمَلُونَ
PRON V

V – 3rd person masculine plural imperfect verb

PRON – subject pronoun

فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل

(34:13:2)

lahu
for him

لَهُ
PRON P

P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine singular personal
pronoun
جار ومجرور

(34:13:3)

mā
what

مَا
REL

REL – relative pronoun
اسم موصول

(34:13:4)

[yashāu](#)
he willed

يَشَاءُ
V

V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع

(34:13:5)

min
of

مِنْ
P

P – preposition
حرف جر

(34:13:6)

[mahārība](#)
elevated
chambers

مَّحْرِبٍ
N

N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور

(34:13:7)

[watamāthīla](#)
and statues

وَتَمَثِيلٍ
N CONJ

CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine plural noun
الواو عاطفة
اسم منصوب

(34:13:8)

[wajifānin](#)
and bowls

وَجِفَانٍ
N CONJ

CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine plural indefinite noun
الواو عاطفة
اسم مجرور

(34:13:9)

[kal-jawābi](#)

like reservoirs

كَالْجَوَابِ
N P

P – prefixed preposition ka

N – genitive masculine plural noun

جار ومجرور

(34:13:10)

[waqudūrin](#)

and cooking-pots

وَقُدُورٍ
N CONJ

CONJ – prefixed conjunction wa (and)

N – genitive masculine plural indefinite noun

الواو عاطفة

اسم مجرور

(34:13:11)

[rāsiyātin](#)

fixed.

رَّاسِيَاتٍ
N

N – genitive feminine singular indefinite active

participle

اسم مجرور

(34:13:12)

[i'malū](#)

"Work,

اعْمَلُوا
PRON V

V – 2nd person masculine plural imperative verb

PRON – subject pronoun

فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل

(34:13:13)

[āla](#)

O family

آلٍ
N

N – accusative masculine noun

اسم منصوب

(34:13:14)

dāwūda

(of) Dawood!

دَاوُدَ
PN

PN – genitive proper noun → [David](#)

اسم علم مجرور بالفتحة بدلاً من الكسرة لأنه ممنوع من الصرف

(34:13:15)

[shuk'ran](#)

(in) gratitude."

شُكْرًا
N

N – accusative masculine indefinite noun

اسم منصوب

(34:13:16)

[waqalīlun](#)

But few

وَقَلِيلٌ
N CONJ

CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative masculine singular indefinite noun

الواو عاطفة
اسم مرفوع

(34:13:17)

min

of

مِّنْ
P

P – preposition

حرف جر

(34:13:18)

['ibādiya](#)

My slaves

عِبَادِي
PRON N

N – genitive masculine plural noun
PRON – 1st person singular possessive pronoun

اسم مجرور والياء ضمير متصل في محل جر بالاضافة

(34:13:19)

[l-shakūru](#)

(are) grateful.

الشَّكُورُ
ADJ

ADJ – nominative masculine singular adjective

صفة مرفوعة

Hadith on Buraqs sweating!

JAMI-AT-TIRMIDHI#3423(Da'if) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِالْبُرَاقِ لَيْلَةَ أُسْرِي بِهِ مُلْجَمًا مُسْرَجًا فَاسْتَصْعَبَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ أَيُّ مُحَمَّدٍ تَفْعَلُ هَذَا فَمَا رَكِبَكَ أَحَدٌ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ مِنْهُ قَالَ " **فَارْفُضْ عَرَفًا** ". قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَلَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ .

Narrated Anas:that Al-Buraq was brought to the Prophet (ﷺ) on the Night of Isra, saddled and reined, but he shied from him. So Jibra'il said to him: "is it from Muhammad that you do this? By your Lord! There is no one more honorable to your Lord than him." He said: "Then he started sweating profusely."

Seventy thousand people without accounting will be entering paradise!

JAMI-AT-TIRMIDHI#2624(Hassan) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ الْأَلْهَانِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " **وَعَدَنِي رَبِّي أَنْ يُدْجَلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفًا لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعُونَ أَلْفًا وَثَلَاثَ حَتِّيَّاتٍ مِنْ حَتِّيَّاتِهِ** ". قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

Abu Umamah narrated the Messenger of Allah (s.a.w)said:"My Lord promised me that seventy thousand of my Ummah shall be admitted into Paradise without a reckoning against them, Nor

any punishment. With every thousand, are seventy thousand and three measures from the measures of my Lord."

SUNAN-IBN-MAJAH#4427(Hassan)

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الْأَلْهَانِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ وَعَدَنِي رَبِّي سُبْحَانَهُ أَنْ يُدْخَلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفًا لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعُونَ أَلْفًا وَثَلَاثَ حَنِيَّاتٍ مِنْ حَنِيَّاتِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ " .

Abu Umamah Al-Bahili said: "I heard the Messenger of Allah (ﷺ) say: 'My Lord has promised me that seventy thousand of my nation will enter Paradise without being brought to account or punished. With every thousand will be (another) seventy thousand, and three handfuls of my Lord, the Glorified.'"

BUKHARI#6543;6542

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَسَّانَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا أَوْ سَبْعُمِائَةِ أَلْفٍ - شَكَ فِي أَحَدِهِمَا - مُتَمَاسِكِينَ، آخِذٌ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، حَتَّى يَدْخُلَ أَوْلَهُمْ وَأَخْرَهُمُ الْجَنَّةَ، وَوَجُوهُهُمْ عَلَى ضَوْءِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ " .

Narrated Sahl bin Sa'd: The Prophet (ﷺ) said, "Seventy-thousand or seven-hundred thousand of my followers (the narrator is in doubt as to the correct number) will enter Paradise holding each other till the first and the last of them enter Paradise at the same time, and their faces will have a glitter like that of the moon at night when it is full."

ہم سے سعید بن ابو مریم نے بیان کیا ، کہا ہم سے ابو عسان نے بیان کیا ، کہا کہ مجھ سے ابو حازم نے بیان کیا ، ان سے سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جنت میں میری امت کے ستر ہزار یا سات لاکھ (راوی کو ان میں سے کسی ایک تعداد میں شک تھا) آدمی اس طرح داخل ہوں گے کہ بعض بعض کو پکڑے ہوئے ہوں گے اور اس طرح ان میں کے اگلے پچھلے سب جنت میں داخل ہو جائیں گے اور ان کے چہرے چودھویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے -

MUSLIM# 218b

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ عَمْرٍو أَبُو حُسَيْنَةَ النَّقْفِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْأَعْرَجِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ " . قَالُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَلَا يَكْتُمُونَ وَلَا يَتَوَكَّلُونَ " .

Imran b. Husain reported: Verily the Messenger of Allah (ﷺ) said: Seventy thousand men of my Ummah would enter Paradise without rendering account. They (the companions of the Holy Prophet) said: Who would be those, Messenger of Allah? He (the Holy Prophet) said: They would be those who neither practise charm, not take omens, nor do they cauterise, but they repose their trust in their Lord.

SUNAN-IBN-MAJAH#4426

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هَلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رِقَاعَةَ الْجُهَنِيِّ، قَالَ صَدَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ " وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا مِنْ عَبْدٍ يُؤْمِنُ ثُمَّ يُسَدِّدُ إِلَّا سُلِكَ بِهِ فِي الْجَنَّةِ وَأَرْجُو أَلَّا يَدْخُلُهَا حَتَّى تَبَوَّءُوا أَنْتُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ذُرَارِيكُمْ مَسَاكِينَ فِي الْجَنَّةِ وَلَقَدْ وَعَدَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُدْخَلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ " .

Narrated that Rifa'ah Al-Juhani said: "We came back (from a campaign) with the Messenger of Allah (ﷺ) and he said: 'By the One in Whose Hand is the soul of Muhammad, there is no person who believes then stands firm, but he will be caused to enter Paradise. I hope that they will not enter it until you and those who are righteous among your offspring will enter it and take up your dwelling places therein. And my Lord has promised me that seventy thousand of my nation will enter Paradise without being brought to account.'"

Condition for Iman

BUKHARI#14;15

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ " .

Narrated Anas: The Prophet (ﷺ) said "None of you will have faith till he loves me more than his father, his children and all mankind."

ہمیں حدیث بیان کی یعقوب بن ابراہیم نے ، ان کو ابن علیہ نے ، وہ عبدالعزیز بن صہیب سے روایت کرتے ہیں ، وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں اور ہم کو آدم بن ابی ایاس نے حدیث بیان کی ، ان کو شعبہ نے ، وہ قتادہ سے نقل کرتے ہیں ، وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہو گا جب تک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے ۔

Quranic advice to follow Muhammad(PBUH)

SURAH AL-Ahaazab CHAPTER#33 VERSE#21

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Laqad kana lakum fee rasooli Allahi oswatun hasanatun liman kana yarjoo Allaha waalyawma alakhirah wathakara Allaha katheeran Transliteration 21:

Indeed in the Messenger of Allah (Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم) you have a good example to follow for him who hopes for (the Meeting with) Allah and the Last Day, and remembers Allah much. English: 21:

البتہ تمہارے لیے رسول اللہ میں اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور قیامت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو

بہت یاد کرتا ہے

:Urdu 21

WORD TO WORD TRANSLATION WITH GRAMMAR

(33:21:1)

laqad

Certainly,

لَقَدْ

CERT EMPH

EMPH – emphatic prefix lām

CERT – particle of certainty

اللام التوكيد
حرف تحقيق

(33:21:2)

kāna

is

كَانَ
•
V

V – 3rd person masculine singular perfect verb

فعل ماض

(33:21:3)

lakum

for you

لَكُمْ
•
PRON P

P – prefixed preposition lām

PRON – 2nd person masculine plural personal

pronoun

جار ومجرور

(33:21:4)

fī

in

فِي
•
P

P – preposition

حرف جر

(33:21:5)

rasūli

(the) Messenger

رَسُولٍ
•
N

N – genitive masculine noun

اسم مجرور

(33:21:6)

l-lahi

(of) Allah

اللَّهِ
•
PN

PN – genitive proper noun → [Allah](#)

لفظ الجلالة مجرور

(33:21:7)

us'watun

an excellent
example

أُسْوَةٌ
•
N

N – nominative feminine indefinite noun

اسم مرفوع

(33:21:8)		N – nominative feminine indefinite noun اسم مرفوع
hasanatun an excellent example	N	
(33:21:9)		P – prefixed preposition lām REL – relative pronoun جار ومجرور
liman for (one) who	REL P	
(33:21:10)		V – 3rd person masculine singular perfect verb فعل ماض
kāna has	V	
(33:21:11)		V – 3rd person masculine singular imperfect verb فعل مضارع
yarjū hope	V	
(33:21:12)		PN – accusative proper noun → Allah لفظ الجلالة منصوب
l-laha (in) Allah	PN	
(33:21:13)		CONJ – prefixed conjunction wa (and) N – accusative masculine noun → Last Day الواو عاطفة اسم منصوب
wal-yawma and the Day	N CONJ	
(33:21:14)		N – accusative masculine singular noun اسم منصوب
l-ākhirā the Last,	N	

(33:21:15)
[wadhakara](#)
and remembers

وَذَكَرَ
V CONJ

CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الواو عاطفة
فعل ماض

(33:21:16)
[l-laha](#)
Allah

اللَّهِ
PN

PN – accusative proper noun → [Allah](#)
لفظ الجلالة منصوب

(33:21:17)
[kathīran](#)
much.

كَثِيرًا
ADJ

ADJ – accusative masculine singular indefinite
adjective
صفة منصوبة
